

# SURAH BAQARAH

## PRACTICE WORDS AL BAQARAH 1-10

|                              |                              |                            |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| ساتھ نام                     | بِ + سَم                     | بِسْمِ                     |
| اللہ کے                      |                              | اللَّهِ                    |
| بڑا مہربان // نہایت رحم والا | ال + رَحْمٰنِ // الرَّحِيْمِ | الرَّحْمٰنِ // الرَّحِيْمِ |
| ال م                         |                              | الْمِ                      |
| یہ / وہ                      |                              | ذَٰلِكَ                    |
| کتاب                         | ال + كِتَابِ                 | الْكِتَابِ                 |
| نہیں                         |                              | لَا                        |
| شک                           |                              | رَيْبٍ                     |
| اس میں / جس میں              | فِي + هَا                    | فِيهِ                      |
| ہدایت                        |                              | هُدًى                      |
| پرہیزگاروں کے لیے            | لِ + الْمُتَّقِيْنَ          | لِلْمُتَّقِيْنَ            |
| وہ لوگ                       |                              | الَّذِيْنَ                 |
| ایمان لاتے ہیں               | ي + وُ مِنْ + وْنَ           | يُؤْمِنُوْنَ               |
| بن دیکھے پر                  | بِ + الْغَيْبِ               | بِالْغَيْبِ                |
| اور                          |                              | وَ                         |
| وہ قائم کرتے ہیں             | ي + قِيْمٍ + وْنَ            | يَقِيْمُوْنَ               |

| نماز                   |                        | الصَّلَاةُ    |
|------------------------|------------------------|---------------|
| اس میں سے جو           | مِنْ + مَا             | مِمَّا        |
| جو کچھ ہم نے انہیں دیا | رَزَقْنَا + نَا + هُمْ | رَزَقْنَاهُمْ |
| وہ خرچ کرتے ہیں        | يُ + نَفِقُوا + وَنَ   | يُنْفِقُونَ   |
| وہ ایمان لاتے ہیں      | يُ + وَآمَنُوا + وَنَ  | يُؤْمِنُونَ   |
| ساتھ اس کے جو          | بِ + مَا               | بِمَا         |
| اتارا گیا/نازل کیا گیا |                        | أُنزِلَ       |
| آپ کی طرف              | إِلَى + كَ             | إِلَيْكَ      |
| جو                     |                        | مَا           |
| سے                     |                        | مِنْ          |
| آپ سے پہلے             | قَبْلَ + كَ            | قَبْلِكَ      |
| ساتھ آخرت کے           | بِ + الْآخِرَةِ        | بِالْآخِرَةِ  |
| وہ                     |                        | هُمْ          |
| وہ یقین رکھتے ہیں      | يُ + وَفَّقُوا + وَنَ  | يُؤَفِّقُونَ  |
| یہی لوگ                |                        | أَوْلِيَّكَ   |
| اوپر                   |                        | عَلَى         |
| سے                     |                        | مِّنْ         |
| اپنے رب کے             | رَبِّ + هُمْ           | رَبِّهِمْ     |

|                      |                        |                   |
|----------------------|------------------------|-------------------|
| فلح پانے والے ہیں    |                        | الْمُفْلِحُونَ    |
| بے شک                |                        | إِنَّ             |
| جنھوں نے کفر کیا     |                        | كَفَرُوا          |
| برابر ہے             |                        | سَوَاءً           |
| اوپر ان کے           | عَلَى + هُمْ           | عَلَيْهِمْ        |
| خواہ آپ ان کو ڈرائیں | ءَ + أَنْذَرْتُ + هُمْ | ءَ أَنْذَرْتَهُمْ |
| یا                   |                        | أَمْ              |
| نہ                   |                        | لَمْ              |
| نہیں                 |                        | لَا               |
| مہر لگادی            |                        | خَتَمَ            |
| اوپر                 |                        | عَلَى             |
| ان کے دلوں           | قُلُوبٍ + هُمْ         | قُلُوبِهِمْ       |
| ان کے کانوں          | سَمْعٍ + هُمْ          | سَمْعِهِمْ        |
| ان کی آنکھوں         | أَبْصَارٍ + هُمْ       | أَبْصَارِهِمْ     |
| پردہ                 |                        | غِشَاوَةٌ         |
| ان کے لیے            | لَ + هُمْ              | لَهُمْ            |
| بڑا                  |                        | عَظِيمٌ           |
| لوگ                  |                        | النَّاسِ          |

|                   |                |                   |
|-------------------|----------------|-------------------|
| جو                |                | مَنْ              |
| وہ کہتے ہیں       |                | يَقُولُ           |
| ہم ایمان لائے     | آمَنَ + نَا    | آمَنَّا           |
| اللہ پر           | بِ + اللّٰه    | بِاللّٰه          |
| دن پر             | بِ + الْيَوْمِ | بِالْيَوْمِ       |
| قیامت کے          |                | الْآخِرِ          |
| حالانکہ           |                | وَ                |
| نہیں              |                | مَا               |
| ایمان والے        |                | بِ الْمُؤْمِنِينَ |
| وہ دھوکا دیتے ہیں | يُحَادِثُونَ   | يُحَادِثُونَ      |
| وہ دھوکا دیتے ہیں | يَحْدَعُونَ    | يَحْدَعُونَ       |
| سوا / مگر         |                | إِلَّا            |
| اپنے آپ ہی کو     |                | أَنْفُسَهُمْ      |
| وہ سمجھتے ہیں     | يَشْعُرُونَ    | يَشْعُرُونَ       |
| میں               |                | فِي               |
| بیماری            |                | مَرَضٍ            |
| پس بڑھادی ان کی   | فَزَادَهُمْ    | فَزَادَهُمْ       |
| اور ان کے لیے     | وَأَلَّاهُمْ   | وَأَلَّاهُمْ      |

|               |                    |             |
|---------------|--------------------|-------------|
| دردناک        |                    | أَلِيمٌ     |
| اس لیے کہ جو  | بِ + مَا           | بِمَا       |
| تھے           |                    | كَانُوا     |
| وہ جھوٹ بولتے | يَ + كَذِبٌ + وَنَ | يَكْذِبُونَ |

## PRACTICE WORDS AL BAQARAH 11-16

|                     |                      |             |
|---------------------|----------------------|-------------|
| جب                  |                      | إِذَا       |
| کہا جاتا ہے         |                      | قِيلَ       |
| اُن سے              | لِ + هُمْ            | لَهُمْ      |
| نہیں                |                      | لَا         |
| تم فساد کرو         | تُ + فُسِدُوا + وَ   | تُفْسِدُوا  |
| میں                 |                      | فِي         |
| زمین                |                      | الْأَرْضِ   |
| وہ کہتے ہیں         |                      | قَالُوا     |
| بے شک               |                      | إِنَّمَا    |
| ہم                  |                      | نَحْنُ      |
| اصلاح کرنے والے ہیں | مُ + صُلِحُوا + وَنَ | مُصْلِحُونَ |
| خبردار              |                      | آلَا        |
| بے شک وہ            |                      | إِنَّهُمْ   |

|                    |                    |                 |
|--------------------|--------------------|-----------------|
| وہی                |                    | ہُم             |
| فساد کرنے والے ہیں |                    | الْمُفْسِدُونَ  |
| لیکن               |                    | لٰكِن           |
| وہ شعور رکھتے ہیں  | يَ + شَعْرُ + وَنَ | يَشْعُرُونَ     |
| جس طرح / جیسا کہ   |                    | كَمَا           |
| کیا ہم ایمان لائیں | أَ + نُؤْمِنُ      | أَنُؤْمِنُ      |
| بے وقوف            |                    | السُّفَهَاءُ    |
| وہ علم رکھتے ہیں   | يَ + عِلْمٌ + وَنَ | يَعْلَمُونَ     |
| وہ ملتے ہیں        |                    | لَقُوا          |
| اُن لوگوں سے       |                    | الَّذِينَ       |
| ایمان لائے         |                    | ءَامَنُوا       |
| ہم ایمان لے آئے    | ءَامَنَ + نَا      | ءَامَنَّا       |
| وہ اکیلے ہوتے ہیں  |                    | خَلَاوْا        |
| طرف                |                    | إِلَى           |
| اپنے شیطانوں کے    | شَيَاطِينِ + هُمْ  | شَيَاطِينِهِمْ  |
| بے شک ہم           | إِنَّ + نَا        | إِنَّا          |
| تمہارے ساتھ ہیں    | مَعَ + كُمْ        | مَعَكُمْ        |
| ہنسی کرنے والے ہیں |                    | مُسْتَهْزِئُونَ |

|                                       |                              |                        |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| ہنسی کرتا ہے                          |                              | يَسْتَهْزِئُ           |
| انکے ساتھ                             | بِ + يَسْمَ                  | بِهِمْ                 |
| انہیں ڈھیل دیتا ہے                    | يَ + مُدَّ + هُمْ            | يَمُدُّهُمْ            |
| انکی سرکشی میں                        | طُعْيَانِ + هُمْ             | طُعْيَانِهِمْ          |
| وہ حیران ہیں                          |                              | يَعْمَهُونَ            |
| وہ لوگ ہیں                            |                              | أُولَئِكَ              |
| خریدی                                 |                              | اشْتَرَوْا             |
| گمراہی                                |                              | الضَّلَالَةَ           |
| ہدایت کے بدلے                         | بِ + اَلْهُدَى               | بِالْهُدَى             |
| تو نہ / پس نہیں                       |                              | فَمَا                  |
| سود مند / نفع دیا                     |                              | رَبِحَتْ               |
| ان کی تجارت                           | تِجَارَتُ + هُمْ             | تِجَارَتِهِمْ          |
| اور نہ                                |                              | وَمَا                  |
| تھے وہ                                |                              | كَانُوا                |
| ہدایت پانے والے                       |                              | مُهْتَدِينَ            |
| <b>PRACTICE WORD AL BAQARAH 17-20</b> |                              |                        |
| ان کی مثال // مانند مثال              | مَثَلُ + هُمْ // كَ + مَثَلِ | مَثَلُهُمْ // كَمَثَلِ |
| جس نے جلائی                           |                              | اسْتَوْقَدَ            |

|                     |                     |             |
|---------------------|---------------------|-------------|
| آگ                  |                     | نَارًا      |
| توجب                |                     | فَلَمَّا    |
| روشن کر دیا         |                     | أَضَاءَتْ   |
| جو                  |                     | مَا         |
| اس کے آس پاس        | حَوْلَ + هُ         | حَوْلَهُ    |
| بجھادی / زائل کر دی |                     | ذَهَبَ      |
| اللہ نے             |                     | اللَّهُ     |
| ان کی روشنی         | ب + نُورٍ + هُمْ    | بِنُورِهِمْ |
| انہیں چھوڑا         | تَرَكَ + هُمْ       | تَرَكَهُمْ  |
| میں                 |                     | فِي         |
| اندھیروں            |                     | ظُلُمَاتٍ   |
| نہیں                |                     | لَا         |
| وہ دیکھتے ہیں       | يُ + بُصِرُ + وْنَ  | يُبْصِرُونَ |
| بہرے ہیں            |                     | صَمٌّ       |
| گونگے ہیں           |                     | بَكْمٌ      |
| اندھے ہیں           |                     | عُمِّي      |
| سو وہ               | ف + هُمْ            | فَهُمْ      |
| وہ لوٹیں گے         | ي + اَرْجِعُ + وْنَ | يَرْجِعُونَ |



|                              |                     |                  |
|------------------------------|---------------------|------------------|
|                              |                     | أَوْ             |
| جیسا کہ بارش ہو              | كَ + صَيَّبٍ        | كَصَّبٍ          |
| سے                           |                     | مِّن             |
| آسمان                        |                     | السَّمَاءِ       |
|                              | فِي + هِ            | فِيهِ            |
| کڑک / گرج                    |                     | رَعْدًا          |
| بجلی                         |                     | بَرْقًا          |
| وہ ٹھونسنے لیتے ہیں / دے لیں |                     | يَجْعَلُونَ      |
| اپنی انگلیاں                 | أَصَابِعَ + هُمْ    | أَصَابِعَهُمْ    |
| اپنے کانوں میں               | أَذَانٍ + هُمْ      | أَذَانِهِمْ      |
| کڑک                          |                     | الصَّوَاعِقِ     |
| اندیشہ / ڈر سے               |                     | حَذَرًا          |
| موت کے                       |                     | الْمَوْتِ        |
| اللہ                         |                     | اللَّهِ          |
| احاطہ میں لیے ہوئے ہیں       |                     | مُحِيطًا         |
| کافروں کو                    | بِ + لُكَاْفِرِيْنَ | بِالْكَافِرِيْنَ |
| قریب ہے                      |                     | يَكَادُ          |
| بجلی (کی چمک)                |                     | الْبَرْقِ        |

|                     |                    |                |
|---------------------|--------------------|----------------|
| اچک لے جائے۔        |                    | يَخْطَفُ       |
| بصارت ان کی         | أَبْصَارَ + هُمْ   | أَبْصَارَ هُمْ |
| جب کبھی             |                    | كَلَّمَا       |
| روشنی کی / چمکتی ہے |                    | أَضَاءَ        |
| ان کے لیے           | لَ + هُمْ          | لَهُمْ         |
| چلتے ہیں            |                    | مَشَوْا        |
| اور جب              | وَ + إِذَا         | وَإِذَا        |
| اندھیرا ہوتا ہے     |                    | أَظْلَمَ       |
| ان پر               | عَلَيْ + يَوْمَ    | عَلَيْهِمْ     |
| ٹھہرتے ہیں          |                    | قَامُوا        |
| اور اگر             | وَ + أَوْ          | وَ أَوْ        |
| چاہے                |                    | شَاءَ          |
| ضرور لے جائے        | لَ + ذَهَبَ        | لَذَهَبَ       |
| سماعت ان کی         | بِ + سَمِعَ + هُمْ | بِسَمْعِهِمْ   |
| بے شک               |                    | إِنَّ          |
| اوپر                |                    | عَلَى          |
| ہر                  |                    | كُلِّ          |
| چیز                 |                    | شَيْءٍ         |

قادر ہے

قَدِيرٌ

## PRACTICE WORD AL BAQARAH 21-25

|                             |             |              |
|-----------------------------|-------------|--------------|
| اے                          |             | يَا أَيُّهَا |
| لوگو                        |             | النَّاسِ     |
| عبادت کرو                   |             | اعْبُدُوا    |
| اپنے رب کی                  | رَبِّكُمْ   | رَبِّكُمْ    |
| جس نے                       |             | الَّذِي      |
| پیدا کیا تمہیں              | خَلَقَكُمْ  | خَلَقَكُمْ   |
| اور انہیں جو                | وَالَّذِينَ | وَالَّذِينَ  |
| سے                          |             | مِنْ         |
| تم سے پہلے                  | قَبْلَكُمْ  | قَبْلَكُمْ   |
| تاکہ تم                     | لَعَلَّكُمْ | لَعَلَّكُمْ  |
| تم بچ جاؤ / پرہیزگار ہو جاؤ |             | تَتَّقُونَ   |
| بنایا                       |             | جَعَلَ       |
| تمہارے لیے                  |             | لَكُمْ       |
| زمین                        |             | الْأَرْضِ    |
| پکھونا                      |             | فِرَاشًا     |
| آسمان                       |             | السَّمَاءِ   |

|                       |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| چھت                   |               | بِنَاءِ      |
| اتارا                 |               | أَنْزَلَ     |
| پانی                  |               | مَاءٍ        |
| پھر نکالے / پیدا کئے۔ | فَ+أَخْرَجَ   | فَأَخْرَجَ   |
| میوے / پھل            |               | الثَّمَرَاتِ |
| روزی                  |               | رِزْقًا      |
| پس نہ                 | فَ+لَا        | فَلَا        |
| تم بناؤ۔ / ٹھیراؤ     | تَ+جَعَلُوا   | تَجْعَلُوا   |
| اللہ کا / اللہ کے لیے | لِ+لَّهِ      | لِلَّهِ      |
| شریک                  |               | أَنْدَادًا   |
| حالانکہ تم            | وَ+أَنْتُمْ   | وَأَنْتُمْ   |
| تم جانتے ہو           | تَ+عَلِمُوا   | تَعْلَمُونَ  |
| اور اگر               | وَ+إِنْ       | وَإِنْ       |
| ہو تم                 | كُنْ+أَنْتُمْ | كُنْتُمْ     |
| شک                    |               | رَيْبٍ       |
| اس میں جو             | مِّنْ+مَّا    | مِمَّا       |
| نازل کیا ہم نے        | نَزَّلْنَا    | نَزَّلْنَا   |
| پر                    |               | عَلَى        |

|                 |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|
| اپنے بندے       | عَبْدِنَا     | عَبْدِنَا     |
| پس لاؤ          | فِ+اَتُوا     | فَاتُوا       |
| کوئی سورت       | بِ+سُورَةٍ    | بِسُورَةٍ     |
| اس جیسی         | مِثْلِ+هِ     | مِثْلِهِ      |
| بلاؤ            |               | ادْعُوا       |
| تمہارے مددگار   | شُهَدَاءَكُمْ | شُهَدَاءَكُمْ |
| سوا             |               | دُونِ         |
| اگر             |               | إِنْ          |
| سچے             |               | صَادِقِينَ    |
| پھر اگر         | فِ+إِنْ       | فَإِنْ        |
| نہ              |               | لَمْ          |
| تم کر سکو       | تَ+فَعَلُوا   | تَفْعَلُوا    |
| ہرگز نہ         |               | لَنْ          |
| پس بچو / تو ڈرو | فَ+اتَّقُوا   | فَاتَّقُوا    |
| آگ سے           |               | النَّارِ      |
| وہ جو / اس      |               | الَّتِي       |
| جس کا ایندھن    |               | وَقُودُهَا    |
| پتھر            |               | الْحِجَارَةُ  |

|                        |                       |                       |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| تیار کی گئی            |                       | أَعَدَّتْ             |
| کافروں کے لیے          | لِلْكَافِرِينَ        | لِلْكَافِرِينَ        |
| خوشخبری                |                       | بَشِيرٍ               |
| ایمان لائے             |                       | آمَنُوا               |
| کام کیے                |                       | عَمِلُوا              |
| نیک / اچھے             |                       | الصَّالِحَاتِ         |
| کہ                     |                       | أَنَّ                 |
| ان کے لیے              | لَهُمْ                | لَهُمْ                |
| باغات                  |                       | جَنَّاتٍ              |
| بہتی ہیں               |                       | تَجْرِي               |
| ان کے نیچے             | تَحْتِهَا             | تَحْتِهَا             |
| نہریں                  |                       | الْأَنْهَارِ          |
| جب کبھی                |                       | كُلَّمَا              |
| ملے گا // ہمیں ملا تھا | رُزِقُوا // رُزِقْنَا | رُزِقُوا // رُزِقْنَا |
| پھل                    |                       | ثَمَرَةٍ              |
| کھانے کو               |                       | رِزْقًا               |
| یہ                     |                       | هَذَا                 |
| وہی ہے جو              |                       | أَلَيْ                |

|                    |               |              |
|--------------------|---------------|--------------|
| دئیے جائیں گے      |               | أَتُوا       |
| ساتھ اس کے         |               | بِهِ         |
| ہم شکل / ملتا جلتا |               | مُتَشَابِهًا |
| ان کے لیے          | لَ+هُمْ       | لَهُمْ       |
| عورتیں / بیویاں    |               | أَزْوَاجٍ    |
| پاکیزہ             |               | مُطَهَّرَةٌ  |
| اور وہ             | وَ+هُمْ       | وَهُمْ       |
| اس میں             | فِي+هَا       | فِيهَا       |
| ہمیشہ رہیں گے      | خَالِدًا+وَنَ | خَالِدُونَ   |

## PRACTICE WORD AL BAQARAH 26-29

|                     |           |             |
|---------------------|-----------|-------------|
| بے شک               |           | إِنَّ       |
| شرماتا / حیا فرماتا |           | يَسْتَحْيِي |
| کہ                  |           | أَنَّ       |
| وہ بیان کرے         | يَ+ضْرِبَ | يَضْرِبُ    |
| کوئی مثال           |           | مَثَلًا     |
| کوئی سی بھی         |           | مَا         |
| مچھر کی             |           | بُعُوضَةً   |
| سوجو                | فَ+مَا    | فَمَا       |

|                           |                        |               |
|---------------------------|------------------------|---------------|
| اوپر اسکے                 | فَوْقُ + هَا           | فَوْقَهَا     |
| سوجو                      | ف + اَمَّا             | فَأَمَّا      |
| ایمان لائے                | آمَنُوا                | آمَنُوا       |
| پس وہ جانتے ہیں           | ف + ي + عَلِمُوا + وَا | فَيَعْلَمُونَ |
| بیشک یہ                   | أَنَّ + هُ             | أَنَّهٗ       |
| سچ ہے                     |                        | الْحَقُّ      |
| ان کے پروردگار کی (طرف سے | رَبِّ + هُمْ           | رَبِّهِمْ     |
| اور رہ گئے                | و + اَمَّا             | وَأَمَّا      |
| وہ لوگ جو                 |                        | الَّذِينَ     |
| کافر ہیں                  | كَفَرُوا               | كَفَرُوا      |
| سو وہ کہتے ہیں            | ف + ي + قَوْلُوا + وَا | فَيَقُولُونَ  |
| کیا                       |                        | مَاذَا        |
| اراد کیا / چاہا           |                        | أَرَادَ       |
| ساتھ اس                   | بِ + هَذَا             | بِهَذَا       |
| مثال کے                   |                        | مَثَلًا       |
| گمراہ کرتا ہے             | يُضِلُّ                | يُضِلُّ       |
| ساتھ اس کے                | بِ + هِءِ              | بِهِءِ        |
| اکثر کو / بہتوں کو        |                        | كَثِيرًا      |



|                       |                       |               |
|-----------------------|-----------------------|---------------|
| وہ ہدایت بخشتا ہے     | ي + هَدِي             | يَهْدِي       |
| اور نہیں              | و + مَا               | وَمَا         |
| مگر                   |                       | إِلَّا        |
| نافرمانوں کو          | ال + فَاسِقٍ + يَنْ   | الْفَاسِقِينَ |
| وہ توڑ دیتے ہیں       | ي + نَقُضُ + وَنْ     | يَنْقُضُونَ   |
| عہد کو                |                       | عَهْدَ        |
| بعد اس کے             | مِنْ + بَعْدِ         | مِنْ بَعْدِ   |
| پختہ کرنے اسکے        | مِيثَاقٍ + هِ         | مِيثَاقِهِ    |
| اور وہ قطع کرتے ہیں   | و + ي + قَطَعُ + وَنْ | وَيَقْطَعُونَ |
| حکم دیا               |                       | أَمْرَ        |
| جوڑنے کا              |                       | يُوصَلِ       |
| وہ فساد کرتے ہیں      | ي + فُسِدُ + وَنْ     | يُفْسِدُونَ   |
| میں                   |                       | فِي           |
| زمین                  |                       | الْأَرْضِ     |
| یہی لوگ               |                       | أُولَئِكَ     |
| وہ                    |                       | هُمْ          |
| نقصان اٹھانے والے ہیں | ال + خَاسِرُونَ       | الْخَاسِرُونَ |
| کیونکر                |                       | كَيْفَ        |

|                   |                     |               |
|-------------------|---------------------|---------------|
| تم انکار کرتے ہو  | ت + كُفِّرُ + وَنْ  | تَكْفُرُونَ   |
| حالانکہ           |                     | و             |
| تھے تم            | كُنْ + تُمْ         | كُنْتُمْ      |
| بے جان تھے        |                     | أَمْوَاتًا    |
| تمہیں زندہ کیا    | فَ + أَحْيَا + كُمْ | فَأَحْيَاكُمْ |
| تمہیں مارے گا     | يُ + مِيتُ + كُمْ   | يُمِيتُكُمْ   |
| تم کو زندہ کرے گا | يُ + حَيِّي + كُمْ  | يُحْيِيكُمْ   |
| پھر               |                     | ثُمَّ         |
| اسی کی طرف        | إِلَى + هِ          | إِلَيْهِ      |
| تم لوٹاؤ جاؤ گے۔  | تُ + رْجِعُ + وَنْ  | تُرْجَعُونَ   |
| وہی               |                     | هُوَ          |
| جس نے             |                     | الَّذِي       |
| پیدا کیا          |                     | خَلَقَ        |
| تمہارے لیے        | لَ + كُمْ           | لَكُمْ        |
| سب کچھ            |                     | جَمِيعًا      |
| متوجہ ہوا         |                     | اسْتَوَى      |
| طرف               |                     | إِلَى         |
| آسمان کی          |                     | السَّمَاءِ    |

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| پھر برابر کر دیا انکو | فَ+سَوَّاهُنَّ | فَسَوَّاهُنَّ |
| سات                   |                | سَبْعَ        |
| آسمانوں               |                | سَمَّوَاتٍ    |
| ہر                    |                | بِكُلِّ       |
| چیز                   |                | شَيْءٍ        |
| خوب جاننے والا        |                | عَلِيمٌ       |

## PRACTICE WORD AL BAQARAH 30-39

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| فرشتوں سے           | لِلْمَلَائِكَةِ | لِلْمَلَائِكَةِ |
| ضرور میں            | إِنَّ+نِي       | إِنِّي          |
| بنانے والا ہوں      |                 | جَاعِلٌ         |
| کیا آپ مقرر کریں گے | أَتَّ+جْعَلُ    | أَتَّجْعَلُ     |
| جو                  |                 | مَنْ            |
| ایک نائب            |                 | خَلِيفَةً       |
| وہ فساد کرے گا      | يُ+فْسِدُ       | يُفْسِدُ        |
| وہ بہائے گا         | يَ+سْفِكُ       | يَسْفِكُ        |
| خون                 |                 | الدِّمَاءِ      |
| حالانکہ             |                 | و               |
| ہم تسبیح کرتے ہیں   | نُ+سَبِّحُ      | نُسَبِّحُ       |

|                       |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| تیری حمد کے ساتھ      | بِ + حَمْدِكَ         | بِحَمْدِكَ                  |
| ہم پاکی بیان کرتے ہیں | نُ + قَدِّسُ          | نُقَدِّسُ                   |
| تیرے لئے              |                       | لَكَ                        |
| تم جانتے ہو           | تَ + عِلْمٌ + وَاوْنَ | تَعْلَمُونَ                 |
| نام                   |                       | الْأَسْمَاءُ // بِأَسْمَاءِ |
| سب کے                 |                       | كُلِّهَا                    |
| پھر                   |                       | ثُمَّ                       |
| پیش کیا ان کو         | عَرَضَ + هُمْ         | عَرَضَهُمْ                  |
| پھر فرمایا            | فَ + قَالَ            | فَقَالَ                     |
| ان سب کے              |                       | هَؤُلَاءِ                   |
| مجھے بتاؤ             | أَتَبُونِي            | أَتَبُونِي                  |
| سچے ہو                | صَادِقِينَ            | صَادِقِينَ                  |
| انہوں نے کہا          | قَالُوا               | قَالُوا                     |
| تو پاک ہے             | سُبْحَانَكَ           | سُبْحَانَكَ                 |
| ہمارے لئے             |                       | لَنَا                       |
| تو نے ہمیں سکھایا     | عَلَّمَ + تَنَا       | عَلَّمْتَنَا                |
| حکمت والا ہے          |                       | الْحَكِيمُ                  |
| پس جب                 |                       | فَلَمَّا                    |

|                              |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| بتاؤ ان کو /// بتادیئے ان کو | أَنْبِئْهُمْ // أَنْبَأْهُمْ | أَنْبِئُهُمْ // أَنْبَأَهُمْ |
| کیا نہیں                     | أَلَمْ                       | أَلَمْ                       |
| جانتا ہوں                    |                              | أَعْلَمُ                     |
| چھپی ہوئی                    |                              | عَيْبٌ                       |
| آسمانوں کی                   |                              | السَّمَاوَاتِ                |
| تم ظاہر کرتے ہو              | تُبْدُونَ                    | تُبْدُونَ                    |
| تم چھپاتے ہو                 | تَكْتُمُونَ                  | تَكْتُمُونَ                  |
| سجدہ کرو                     |                              | اسْجُدُوا                    |
| انکار کیا                    |                              | أَبَى                        |
| تکبر کیا                     |                              | اسْتَكْبَرَ                  |
| ہو گیا                       |                              | كَانَ                        |
| کافروں میں سے                | الْكَافِرِينَ                | الْكَافِرِينَ                |
| ہم نے کہا                    | قُلْنَا                      | قُلْنَا                      |
| اے آدم                       | يَا آدَمُ                    | يَا آدَمُ                    |
| جا کر رہو                    |                              | اسْكُنْ                      |
| تمہاری بیوی                  | زَوْجِكَ                     | زَوْجِكَ                     |
| جنت میں                      |                              | الْجَنَّةِ                   |
| تم دونوں کھاؤ                |                              | كُلَا                        |

|                           |                           |                        |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| شوق سے                    |                           | رَغَدًا                |
| جہاں سے چاہو              |                           | حَيْثُ                 |
| جو چاہو تم دونوں          | سِئْتُمَا                 | سِئْتُمَا              |
| نزدیک جانا تم دونوں       | تَ + قُرْبًا +            | تَقْرَبَا              |
| درخت کے                   |                           | الشَّجَرَةَ            |
| ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے   | فَ + تَ + كُونُ +         | فَتَكُونَا             |
| ظالموں میں سے             |                           | الظَّالِمِينَ          |
| پھر پھسلا دیا دونوں کو    | فَ + أَزَلَّ + هُمَا      | فَأَزَلَّهُمَا         |
| شیطان نے                  |                           | الشَّيْطَانَ           |
| پس ان دونوں کو نکلو ادیا۔ | فَأَخْرَجَ + هُمَا        | فَأَخْرَجَهُمَا        |
| تھے وہ دونوں              |                           | كَانَا                 |
| اتر جاؤ                   |                           | اهْبِطُوا              |
| بعض تمہارے // بعض کے لئے  | بَعْضُ + كُمْ // لِبَعْضٍ | بَعْضُكُمْ // لِبَعْضٍ |
| دشمن                      |                           | عَدُوٌّ                |
| ٹھکانا                    |                           | مُسْتَقَرٌّ            |
| قاعدہ                     |                           | مَتَاعٌ                |
| ایک وقت تک                |                           | حِينَ                  |
| پس سیکھ لئے               | فَ + تَلَّقَى             | فَتَلَقَى              |

|                                       |                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| کچھ کلمات                             |                       | کَلِمَاتٍ             |
| پھر مہربان ہوا                        | ف+تَابَ // التَّوَابُ | فَتَابَ // التَّوَابُ |
| یہاں سے                               | مِنْ+ہَا              | مِنْهَا               |
| سارے کے سارے                          |                       | جَمِيعًا              |
| پھر اگر                               | ف+إِمَّا              | فَأِمَّا              |
| آجائے تمہارے پاس                      | يَأْتِي+نَّ+كُمُ      | يَأْتِيَنَّكُمْ       |
| میری طرف سے                           | مِّنْ+نِي             | مِّنِّي               |
| ہدایت /// میری ہدایت کی               | هُدًى // هُدَايِي     | هُدًى // هُدَايِي     |
| پس جو                                 | ف+مَنْ                | فَمَنْ                |
| خوف ہوگا                              |                       | خَوْفٍ                |
| غمگین ہونگے۔                          | ي+حَزَنُ+وَنَ         | يَحْزَنُونَ           |
| جھٹلائیں گے                           | كَذَّبُوا             | كَذَّبُوا             |
| ہماری آیتوں کو                        | بِ+آيَاتِنَا          | بِآيَاتِنَا           |
| رہنے والے                             |                       | أَصْحَابُ             |
| آگ                                    |                       | النَّارِ              |
| ہمیشہ اس میں رہیں گے                  | خَالِدًا+وَنَ         | خَالِدُونَ            |
| <b>PRACTICE WORD AL BAQARAH 40-46</b> |                       |                       |
| اولاد / بیٹو                          | يَدَابِئِي            | يَدَابِئِي            |

|                    |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|
| یاد کرو            |              | أَذْكُرُوا   |
| نعمت میری / احسان  | نِعْمَتِي    | نِعْمَتِي    |
| میں نے انعام کیا   | أَنْعَمْتُ   | أَنْعَمْتُ   |
| اور پورا کرو       | وَأَوْفُوا   | وَأَوْفُوا   |
| میرا عہد           | بِعَهْدِي    | بِعَهْدِي    |
| میں پورا کروں گا   | أَوْفِي      | أَوْفِي      |
| عہد کو تمہارے      | بِعَهْدِكُمْ | بِعَهْدِكُمْ |
| اور مجھ ہی سے      | وَإِيَّايَ   | وَإِيَّايَ   |
| پس مجھ سے ڈرو      | فَازْهَبُونِ | فَازْهَبُونِ |
| میں نے نازل کی     | أَنْزَلْتُ   | أَنْزَلْتُ   |
| تصدیق کرتی ہے      | مُصَدِّقًا   | مُصَدِّقًا   |
| تمہارے پاس ہے      | مَعَكُمْ     | مَعَكُمْ     |
| پہلے               | أَوَّلَ      | أَوَّلَ      |
| تم خریدو / لو      | تَشْتَرُوا   | تَشْتَرُوا   |
| میری آیتوں کے بدلے | بِآيَاتِي    | بِآيَاتِي    |
| قیمت               | ثَمَنًا      | ثَمَنًا      |
| تھوڑی سی           | قَلِيلًا     | قَلِيلًا     |
| پس مجھ سے ڈرو      | فَاتَّقُونِ  | فَاتَّقُونِ  |



|                    |                  |               |
|--------------------|------------------|---------------|
| تم ملاؤ            | ت + لِسْ + وَا   | تَلِسُوا      |
| ناحق کے ساتھ       | بِ + اَلْبَطِلِ  | بِالْبَطِلِ   |
| تم چھاؤ            | ت + كُمْ + وَا   | تَكْتُمُوا    |
| تم جانتے ہو۔       | ت + عِلْمٌ + وَا | تَعْلَمُونَ   |
| قائم کرو           | أَقِيمُوا        | أَقِيمُوا     |
| نماز               |                  | الصَّلَاةَ    |
| دو                 |                  | ءَاثُوا       |
| زکوٰۃ              |                  | الزَّكَاةَ    |
| رکوع کرو           | أَرْكَعُوا       | أَرْكَعُوا    |
| رکوع کرنیوالے      | أَلْ رَّاكِعِينَ | الرَّاكِعِينَ |
| کیا تم حکم کرتے ہو | أَتَأْمُرُونَ    | أَتَأْمُرُونَ |
| ساتھ نیکی کے       | بِ + اَلْبِرِّ   | بِالْبِرِّ    |
| تم بھول جاتے ہو    | ت + نَسْوْنَ     | تَنْسَوْنَ    |
| اپنے آپ کو         | أَنْفُسِكُمْ     | أَنْفُسِكُمْ  |
| تم تلاوت کرتے ہو   | ت + تُلُونَ      | تَتْلُونَ     |
| کیا پس نہیں        | أَف + لَا        | أَفَلَا       |
| تم سمجھتے ہو       | ت + عَقِلُوا     | تَعْقِلُونَ   |
| مدد لیا کرو        | أَسْتَعِينُوا    | أَسْتَعِينُوا |

|                   |                 |               |
|-------------------|-----------------|---------------|
| صبر سے            | بِ+الْصَّبْرِ   | بِالصَّبْرِ   |
| اور بے شک وہ      | وَ+إِنَّ+هَآ    | وَإِنَّهَا    |
| البتہ مشکل ہے     | لَ+كَبِيرَةٌ    | لَكَبِيرَةٌ   |
| عاجزی کرنے والے   | أَلْ+خَشِيعِينَ | الْخَشِيعِينَ |
| وہ یقین رکھتے ہیں | يَ+ظُنُّونَ     | يُظُنُّونَ    |
| ملنے والے ہیں     | مُلْتَقُونَ     | مُلْتَقُونَ   |
| لوٹ کر جانے والے  | رَآجِعُونَ      | رَآجِعُونَ    |

## PRACTICE WORD AL BAQARAH 47-59

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| ہم نے تمہیں نجات دی    | نَجَّيْنَاكُمْ | نَجَّيْنَاكُمْ |
| دکھ دیتے تھے تم کو     | يَسُومُونَكُمْ | يَسُومُونَكُمْ |
| ذبح کرتے تھے           | يَذْبَحُونَ    | يَذْبَحُونَ    |
| تمہارے بیٹوں کو        | أَبْنَاءَكُمْ  | أَبْنَاءَكُمْ  |
| زندہ رکھتے تھے         | يَسْتَحْيُونَ  | يَسْتَحْيُونَ  |
| تمہاری عورتوں کو       | نِسَاءَكُمْ    | نِسَاءَكُمْ    |
| شق کر دیا/ پھاڑا ہم نے | فَرَقْنَا      | فَرَقْنَا      |
| غرق کر دیا ہم نے       | أَغْرَقْنَا    | أَغْرَقْنَا    |
| چالیں                  | أَرْبَعِينَ    | أَرْبَعِينَ    |
| پچھڑے کو               | الْعِجْلَ      | الْعِجْلَ      |

|                        |                   |                |
|------------------------|-------------------|----------------|
| ہم نے معاف کر دیا      | عَفَوْاَنَا       | عَفَوْنَا      |
| تمہارے بنانے کے        | بِ+اِتَّخَذِ+كُمْ | بِاتَّخَذَكُمْ |
| اپنے پیدا کرنے والے    | بَارِي+كُمْ       | بَارِيكُمْ     |
| روبرو/سامنے/علانیہ     |                   | جَهْرَةً       |
| پھر ہم نے اٹھایا تم کو | بَعَثْنَا+كُمْ    | بَعَثْنَاكُمْ  |
| سایہ کیا ہم نے         | ظَلَّلْنَا        | ظَلَّلْنَا     |
| بادلوں کا              |                   | الْعَمَامَ     |
| پاکیزہ                 |                   | طَيِّبَاتٍ     |
| بخش دے                 |                   | حِطَّةً        |
| سخت عذاب               |                   | رَجْزًا        |
| نافرمانیاں کرتے تھے    | يَ+فُسُقُوا+وَنَ  | يَفْسُقُونَ    |

## PRACTICE WORD AL BAQARAH 60-62

|                            |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| پانی مانگا                 | اسْتَسْقَى       | اسْتَسْقَى       |
| اپنی+لاٹھی+سے              | بِ+عَصَا+كَ      | بِعَصَاكَ        |
| پھر+بہہ نکلے/پھوٹ نکلے     | فَ+انْفَجَرَتْ   | فَانْفَجَرَتْ    |
| بارہ                       | اِثْنَا+عَشْرَةَ | اِثْنَا عَشْرَةَ |
| اپنا+گھاٹ/پینے کی جگہ+اپنی | مَشْرَبَ+هُمْ    | مَشْرَبَهُمْ     |
| تم+فساد مچاتے پھرو         | تَ+عْتَوُوا      | تَعْتَوُوا       |

|                                    |                           |                    |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| ساک + اس کا                        | بَقْلِ + هَا              | بَقْلَهَا          |
| ککڑی + اس کی                       | قَتَائِي + هَا            | قَتَائِيهَا        |
| گیہوں + اس کا                      | فُوم + هَا                | فُومَهَا           |
| مسور + اس کی                       | عَدَس + هَا               | عَدَسِهَا          |
| پیاز + اس کی                       | بَصَل + هَا               | بَصَلَهَا          |
| کیا + تم + اس چیز کو لینا چاہتے ہو | أَتَّ + سْتَبْدِلُ + وَنْ | أَتَّسْتَبْدِلُونَ |
| تم + مانگتے ہو                     | سَأَل + تُمُّ             | سَأَلْتُمُ         |
| وہ + حد سے بڑھ جاتے تھے            | يَ + عَتَدُ + وَنْ        | يَعْتَدُونَ        |

## PRACTICE WORD AL BAQARAH 63-73

|                     |                 |             |
|---------------------|-----------------|-------------|
| ہفتہ کے دن          |                 | السَّبْتِ   |
| بندر                |                 | قِرْدَةَ    |
| ذلیل و خواری        | خَاسِي + يَنْ   | خَاسِيَيْنَ |
| عبرت                |                 | نَكَالًا    |
| ان کے آگے           | يَدِي + هَا     | يَدِيهَا    |
| ان سے پچھلوں        | خَلْف + هَا     | خَلْفَهَا   |
| تم ذبح کرو          | ت + ذُبِح + وَا | تَذْبِحُوا  |
| وہ بیان کریں (اللہ) | يُ + يِّنَ      | يُبَيِّنَ   |
| بوڑھی               |                 | قَارِضٌ     |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| جوان                    |                | يَكُونُ        |
| میانہ عمر               |                | عَوَانٌ        |
| اس کا رنگ               | لَوْنٌ +هَا    | لَوْنُهَا      |
| زرد                     |                | صَفْرَاءُ      |
| گہرا زرد / چمکیلا       |                | فَاقِعٌ        |
| خوش کردیتا ہو           | تَسْرُّ +ت     | تَسْرُّ        |
| محنت کرنے والی          |                | ذُلُولٌ        |
| جوتی                    | تُثِيرُ +ت     | تُثِيرُ        |
| پانی دیتی ہو            | تَسْقِي +ت     | تَسْقِي        |
| کھیتی کو                | الْحَزْنُ +ال  | الْحَزْنُ      |
| کوئی داغ                |                | شَيْبَةٌ       |
| پھر باہم جھگڑنے لگے تم۔ | فَادَارَأْتُمْ | فَادَارَأْتُمْ |
| تم چھپاتے تھے،          | تَكْتُمُونَ +ت | تَكْتُمُونَ    |

## PRACTICE WORD AL BAQARAH 74-82

|                          |                    |                    |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| مانند پتھر               | كَالْحِجَارَةِ     | كَالْحِجَارَةِ     |
| کیا تم امید رکھتے ہو     | أَفْتَطْمَعُونَ    | أَفْتَطْمَعُونَ    |
| وہ بدل ڈالتا ہے          | يُحَرِّفُونَهُ     | يُحَرِّفُونَهُ     |
| تم کیا ان کو بتا دیتے ہو | أَتُحَدِّثُونَهُمْ | أَتُحَدِّثُونَهُمْ |

|                           |                            |                 |
|---------------------------|----------------------------|-----------------|
| تا کہ وہ جھگڑا کریں تم سے | لِ + يُّ + حَاجُوْا + كُمْ | لِيَحَاجُوْكُمْ |
| وہ چھپاتے ہیں             | يُّ + سِرُّوْنَ            | يُسِرُّوْنَ     |
| وہ ظاہر کرتے ہیں          | يُّ + عَلِنُ + وْنَ        | يُعَلِنُوْنَ    |
| اپنے ہاتھوں سے            | بِ + اَيْدِي + هُمْ        | بِاَيْدِيْهِمْ  |
| وہ خلاف کرے گا            | يُّ + خَلِفَ               | يُخَلِفُ        |
| اس کے گناہ نے             | خَطِيئَتُهُ                | خَطِيئَتُهُ     |